

لڑکاری پریشانی سے نجات  
اور  
کینسر کا خاتمہ

حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چغتائی  
پی ایچ ڈی (امریکہ)

ان وظائف کے کارگر ہونے کی چند شرائط ہیں

- ★ یقین کے ساتھ عمل کریں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔
- ★ توجہ کے ساتھ عمل کریں، بے توجہ سے پڑھی جانے والی دعائیں ہو ائیں گے۔
- ★ رزق حلال کا اہتمام کریں، مالک راضی ہو گا تو کام بنے گا۔
- ★ فرائض کا اہتمام کریں۔ جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں۔
- ★ حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتقاب روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے تب عمل کارگر نہیں ہوتا۔
- ★ الفاظ کی تصحیح کا اہتمام کریں، الفاظ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔
- ★ طہارت کا اہتمام کریں، خود بھی پاک صاف ہوں، لباس اور جگہ بھی پاک صاف رکھیں۔
- ★ عاجزی اور آہ وزاری کے ساتھ عمل کریں۔

فیض مرشد، قطب الاقطاب  
حضرت خواجہ سید محمد عبد اللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ

روزگار کی پڑھائی سے نجات

اور

کینسر کا خاتمہ

حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چغتائی  
پی ایچ ذی (امریکہ)

دفتر ماہنامہ عہقری

78/3 قرطبه چوک مزگ چونگی یونایٹڈ بیکری اسٹریٹ جیل روڈ لاہور

042-7552384-0322-4688313

کینسر کا علاج قرآنی آیات سے ممکن ہے  
 قرآن پاک خداوند کریم کی جانب سے بھیجا گیا ایک نسخہ  
 کیمیا ہے جس میں ہر مرض کا علاج موجود ہے اگر قرآنی آیات  
 کی تلاوت کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ مریض صحت یاب نہ ہو  
 ایک مریض جو چند سال قبل کینسر کے مرض میں مبتلا تھا اور  
 ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دیدیا تھا۔ ایسے میں ایک خدا  
 ترس خاتون نے قرآن پاک کی چند چھوٹی چھوٹی آیتیں لکھ کر  
 مریض کو دیں۔ ان آیات کو روزانہ تلاوت کرنے سے چند سالوں  
 میں اس شخص کا مرض جڑ سے چلا گیا اس مریض نے صحت یاب  
 ہونے کے بعد ان آیات مبارکہ کی فوٹو کا پیار ابوظہبی میں تقسیم  
 کیا تاکہ جو بھی مسلمان اس موزی مرض میں مبتلا ہوا سے

فیضیاب ہو سکے کیونکہ قرآنی آیات سے کینسر کا علاج ممکن ہے۔

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَنَزَّلْتُ مِنَ الْقُرْآنِ**

**مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ ۝** (بنی اسرائیل آیت

**وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنَ ۝** (الشعراء آیت 80) وَقُلْ

**رَبِّ اغْفِرْوَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝** (المؤمنون

آیت 118) أَمْنُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيُكْشِفُ

**السُّوءَ ۝** (انہل آیت 62) قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَ سَلْمًا

**عَلَى إِبْرَاهِيمَ ۝** (الأنبياء آیت 69) وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ

**إِنِّي مَسَنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝** (الأنبياء

آیت 83) إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۝ (آل عمران آیت 10) لَا إِلَهَ إِلَّا

**أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝**

فَاسْتَجِنْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمٍ وَكَذَالِكَ نُنجِي  
 الْمُؤْمِنِينَ (الأنبياء آيت 88، 87) إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ  
 شَيْءٍ حَفِيظٌ (هود آيت 57) حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ  
 الْوَكِيلُ (آل عمران آيت 173) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
 وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًاً (احزاب آيت 3) أَلَيْسَ اللَّهُ  
 بِكَافٍ عَبْدَهُ (الزمر آيت 36) هُوَ مَوْلَكُمْ فَنِعْمَ  
 الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (الحج آيت 78) الْحَمْدُ لِلَّهِ  
 رَبِّ الْعُلَمَاءِ (فاتحة آيت 1) نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ  
 النَّصِيرُ (آل عمران آيت 64) تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ  
 الْخَالِقِينَ (المؤمنون آيت 14) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا  
 بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝ تَمَّ دُفْعَةٌ دَرُودٌ شَرِيفٌ اُولَآءِ آخِرٍ

کینسر کا علاج بذریعہ قرآن پاک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَّأْنَهَا

وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَصِحَّةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا.

ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرماء ہمارے سردار محمد ﷺ کے اوپر وہ جودلوں کے لئے حاکم اور علاج اور آنکھوں کیلئے نور اور روشنی کے برابر ہیں اور جسم کیلئے تند رسی اور شفاء کل ہیں۔

فائدہ: جو شخص صحیح یا شام کو یہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر تکلیف کو دور کرے گا اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ قرضہ ادا ہوگا۔

روزی میں برکت ہوگی اور حضور ﷺ کی زیارت نصیب ہوگی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱- وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ  
إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ (سورہ بنی اسرائیل، آیت 82)

ترجمہ: اور ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو  
مومنوں کے لئے (سراسر) شفا اور رحمت ہے۔ (سورہ بنی  
اسرائیل، آیت 186)

۲- وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنَ ۝ (الشعراء، آیت 32)

ترجمہ: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا  
عنایت فرماتا ہے۔

۳- وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ رُحْمٌ وَأَنْتَ  
خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝ (سورہ المؤمنون، آیت 118)

ترجمہ: اور (اے رسول) تم کہو پروردگار تو (میری امت کو) بخش دے اور ترس کھا اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔

4- أَمْنٌ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ

السُّوءُ ۝ (سورہ النمل، آیت 62)

ترجمہ: بھلا وہ کون ہے جب بے قرار اسے پکارے تو دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔

5- قُلْنَا يَانَارُ كُونِيْ بَرْدًا وَ سَلْمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ۝

(سورہ الانبیاء، آیت 69)

ترجمہ: ہم نے حکم دیا اے آگ! تو ابراہیم پر بالکل ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث ہو جا (کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے)۔

6- وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ  
وَأَنْتَ أَرْحَمُ النَّارِ حِمِينَ ۝ (سورہ الانبیاء، آیت 83)

ترجمہ: اور (اے رسول) ایوب (کا قصہ یاد کرو) جب  
انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی (خداوند) یہاں کی تو میرے  
پچھے لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔

7- رَبِّ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۝ (سورہ القمر، آیت 10)  
(ترجمہ: انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ (اے بارالہا)  
میں ان کے مقابلہ میں کمزور ہوں تو اب توہی (ان سے) بدلہ لے۔

8- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ أَنِّي كُنْثٌ مِّنَ

الظَّالِمِينَ ۝ (سورہ ۲۱، آیت 87)

نہیں معبد سوائے تیرے تو پاک ہے اور میں ظالمین میں سے ہوں۔

9- فَاسْتَجْبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ

**نُجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝ (سورہ الانبیاء، آیت 88)**

ترجمہ: (پروردگار) تیرے سوا کوئی معبود نہیں (ہر عیب سے) پاک و پاکیزہ ہے۔ بیشک میں قصور وار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں رنج سے نجات دلائی اور ہم تو ایمانداروں کو یونہی نجات دیا کرتے ہیں۔

**10- إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَئِيْ حَفِيظٌ ۝ (سورہ 10، آیت 57)**

ترجمہ: اس میں شک نہیں کہ میرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے۔

**11- حَسْبُنَاللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ۝ (سورہ 3، آیت 63)**

ترجمہ: خدا ہمارے واسطے کافی ہے اور کیا اچھا سازگار ہے۔

**12- نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝ (سورہ 3، آیت 64)**

13- وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا  
 (سورة 33، آیت 3)

ترجمہ: اور خدا ہی پر بھروسہ کھوا اور خدا ہی کار سازی کیلئے کافی ہے۔

14- إِلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۝ (سورة 29، آیت 36)

ترجمہ: کیا خدا اپنے بندوں کی مدد کیلئے کافی نہیں ہے۔ (ضرور ہے)

15- هُوَ مَوْلَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

(سورة 22، آیت 78)

ترجمہ: وہی تمہارا سر پرست ہے تو کیا اچھا سر پرست

ہے اور اچھا مددگار ہے۔

16- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ: سب تعریف اللہ ہی کیلئے ہے جو سارے جہان کا

پالنے والا ہے۔

17- تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ (سورہ المؤمنون، آیت 14)

ترجمہ: اللہ برکت دینے والا بہترین خالق ہے۔

18- لَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

ترجمہ: نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت سوائے اللہ کے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ

ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے وہ باادشاہ حق اور

ظاہر ہے۔ محمد اللہ کے رسول اور وعدے کے پچھے امانت دار ہیں۔

فضیلت: جو انسان روز (سو) 100 بار اس کا ورد کرے گا

اس کی روزی میں برکت ہوگی۔ عذاب قبر سے بچا رہے گا۔

موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلہ کیلئے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کلمہ روضہ انور کی جالی مبارک پر بھی لکھا گیا ہے۔ (حضرت علیؐ سے روایت ہے)

يَا حَسِّيْ يَا قَيْوُمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغْفِيْثُ.

ترجمہ: اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے۔ تیری رحمت کے ذریعہ فریاد چاہتا ہوں۔

فضیلت: حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ فکر و پریشانی کے وقت پڑھتے تھے۔ فخر کے فرض اور سنت کے درمیان (40) بار پڑھنے سے ہر قسم کی فکر پریشانی اور تکلیف سے نجات ملتی ہے اور اگر مقرض ہو تو روزانہ سو دفعہ پڑھنے سے قرض سے نجات ملتی ہے۔

## درو دشنا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ  
وَأَرْزُقْهُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ  
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

ترجمہ: اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد پر جو اُمی نبی  
ہیں اور ان کی بیویوں پر جو ایمان والوں کی ماں ہیں اور آپ  
کی اولاد پر جس طرح تو نے (ابراہیم) پر اور ابراہیم کی اولاد  
پر بھیجی بیشک تو بزرگ و تعریف والا ہے۔

فضیلت: اس درود شریف کے بارے میں حضرت  
ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا حضور اکرمؐ نے کہ جس شخص

کی خواہش ہو کہ اس کو پورا ثواب ملنے تو میرے اور میرے  
اہل بیت پر یہ درود پڑھتا رہے۔

سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی کی تلاوت میں تمام بیکاریوں سے  
شفا حاصل کرنے کی بے پناہ تائیر موجود ہے۔ چنانچہ میں نے  
قرآن پاک میں یہ تمام سورتیں زبانی یاد کر لیں اور ہر سورۃ کی  
تلاوت سے پہلے اور آخر میں دور و صلوٰۃ کی تلاوت کی۔

# روزگار کی پریشانی کا

آزمودہ و نظیفہ

تألیف: حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چغتائی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
زندگی سے مایوسی

زندگی کے وسائل سے مایوسی کے بعد ہر انسان کی نظر ایک ایسی غیبی امداد کی طرف جاتی ہے۔ جو اس کی مشکلات کا حل کرنے کا ذریعہ بنے اور وہ غیبی مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔

وہ شخص مسلسل رورہا تھا، روتے روتے اس کی پچکی بندھ گئی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ آنسوؤں سے اس کا رومال بھیگ گیا تھا، منه سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے بہت دیر کے بعد وہ گویا ہوا کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اور میں نے یقین، توجہ، وھیان، اعتماد اور یکسوئی سے اس کو پڑھا اور پھر خود ہی کہنے لگا آخر فائدہ کیوں نہ ہوتا، وظیفہ اور دعا بھی

تو وہی ہے جو مسنون ہے اور سنت میں برکت ہے۔ کہنے لگا  
 مشکلات نے گھیر لیا تھا۔ قرضوں کے پہاڑ کے نیچے دب گیا تھا  
 کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ میرے دروازے پر قرض خواہ  
 نہ آتے ہوں۔ ایک طرف قرض کا مطالبہ اور دوسری طرف  
 تمام روزگار برباد ہو چکا تھا۔ جوں جوں روزگار کے لئے  
 میں اسباب اختیار کرتا تمام اسباب خاک ہو جاتے، میری  
 اولاد نے میرا ہاتھ بٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن ہر طرف سے  
 رکاوٹ اور ناکامی میرا مقدر بن چکی تھی، بعض اوقات سوچتا  
 کہ اگر خود کشی جائز ہوتی تو کر لیتا، زندگی سے مایوسی کی یہ  
 حالت تھی کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، حالات یہ تھے کہ  
 ایک لباس کو کئی کئی دن تک پہنے رکھتا تھا، کوئی خوشی، خوشی نظر نہ

آتی تھی، زندگی میں اندھیرا، غم، کڑھن، درد میر امقدار بن چکا  
تھا، بہت سے لوگوں نے تعویذ کرنے والوں، دم کرنے  
والوں سے ملاقات کرائی، کئی لوگوں سے میں خود بھی مالیکن  
سوائے پیسوں کے نیاں کے پچھے حاصل نہ ہوا، پھر میں نے یہ  
ونطیفہ آپ کی بدایت کے مطابق پڑھنا شروع کیا تو میں نے  
محسوس کیا کہ مجھے پچھے حاصل ہو رہا ہے اور میرے حالات  
سنور جائیں گے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو تاکید سے یہ  
ونطیفہ پڑھنے کی تلقین کی اور پھر پچھے غصے کے بعد میں نے  
ایک بچھوٹا سا چائے کا کاروبار کیا، حالانکہ اب تک بے شمار  
کاروبار کر چکا تھا، لیکن سب سوتا منی ہو جاتا رہا، بس اب اللہ  
پاپ نے اس دعائی برکت سے میرے لئے برکت کا فیصلہ

کر ہی لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے چائے کے کار و بار کو  
برکت دی اور اب میں خوشحال ہوں۔ یہ بتیں کہہ کر وہ پھر  
زار و قطار رو نے لگا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور دل میں یہ  
خیال کر رہا تھا یقیناً یہ خوشی کے آنسو ہیں۔

### غريب چھابڑی والے کی ترقی کاراز

میرے دوست اور محسن سليمان صاحب نے اپنے والد  
مرحوم کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا کہ لاہور ریلوے اسٹیشن  
کے قریب آسٹریلیا بلڈنگ کے ساتھ ایک نہایت غریب  
چھابڑی والا کچھ پھل لگا کر شام کو چند روپوں کا آٹا لے کر گھر  
جاتا اور اس کسپرسی میں اس کے شب و روز بسر ہو رہے تھے۔  
فرمانے لگے میرے والد صاحب کے آگے وہ شخص اپنی مفلسی کا  
رونا روتا، والد صاحب مرحوم نے یہی دعا پڑھنے کو بتائی اور ہم

چل دیئے۔ چند سالوں کے بعد ایک دفعہ پھر میں اپنے والد  
مرحوم کے ساتھ اسٹیشن سے شہر کی طرف جا رہا تھا تو وہی شخص  
نامعلوم اس نے کہاں سے دیکھ لیا تھا، نہایت مسرور اور مسرشار  
دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ کے  
بتابے ہوئے وظیفے نے مجھے بہت برکت دی ہے۔ ہوا یہ کہ میں  
نے اس کو نہایت اہتمام سے پڑھنا شروع کر دیا، چھابڑی سے  
میں نے ٹھیلہ اگایا اللہ تعالیٰ نے اور برکت دی ایک چھوٹی سی  
دکان یہاں بکر رہی تھی۔ کوششیں کر کے وہ لے لی، کچھ عرصے  
کے بعد یہاں قریب ہی ایک چلتا ہوا مشہور ہوٹل فروخت ہوا  
میں نے وہ ہوٹل خرید لیا۔ اور اب یہ عالم ہے کہ ہوٹل کی صفائی  
کرتے ہوئے بھی 10-20 آدمی باہر انتظار میں کھڑے

ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنے ہوٹل لے گیا اور کھانے کا اصرار کیا۔  
کھانا تو ہم نہ کھا سکے۔ اس کا کچھ اکرام قبول کر لیا۔ وہ خوشی خوشی  
دعا میں دے رہا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اسے سمجھنے پس آ رہا تھا کہ  
میرے والد محترم کو کہاں بھائے۔ دورانِ افتکلو ایک صاحب  
بتانے لگے۔ اس دعا کو میں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا ہے۔  
ایک بزرگ نے مجھے اس دعا کی اجازت دی تھی۔ جب سے  
میں نے یہ دعا شروع کی ہے مجھے روزگار کی اور معاشی پریشانی  
نہیں ہوئی۔ میں مطمئن ہوں اب تک بے شمار لوگوں کو بتا چکا  
ہوں جس جس نے بھی پڑھا ہے دعا میں دیتا ہے۔

### چند واقعات کا انتخاب

قارئین کرام یہ چند واقعات صرف اس دعا کی اہمیت کو  
بتانے اور سمجھانے کے لئے ہیں۔ ورنہ تو مسنون دعا کی اہمیت

اور فضیلت کے لئے کسی کسوٹی اور تو جمیع کی ضرورت نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کو جب شروع کریں۔ اہتمام سے، مکمل یقین سے، دھیان سے، دل کی سو فیصد گہرا سیوں اور اعتماد سے پڑھیں جتنا یقین کامل ہوگا، اتنے اثرات کامل ہوں گے۔

### طریقہ عمل

اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی در میان میں 313 بار بعد نماز فجر اور عشاء کے نہایت خشوع اور خضوع سے پڑھیں اگر دن میں 2 بار نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں۔ اور اگر تعداد بڑھانا چاہیں تو 786 بار صبح و شام پڑھ لیں۔ کیونکہ جتنا زیادہ گڑا تناز زیادہ میٹھا اور اٹھتے بیٹھتے بھی اس دعا کو نہایت اپنائیں اور نہایت کثرت سے کم از کم 90 دن ضرور پڑھیں۔ اس سے زیادہ پڑھیں تو اور نفع ہوگا اور اگر زندگی کا معمول بنالیں تو بات ہی کیا ہے۔

# دعا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ اكْفُنِي بِحَلَالِكَ عَنْ

إِلَيْكَ حَرَامٌ مَا لَتْ بَيْعَةَ أَپَنِي حَالَ

حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ

مَا لَكَ مِيرِي كَفَايَتْ كَرَاوَرْ بِهِ سُبْبَ أَپَنِي فَنَلَے

عَمَّنْ سُواكَ

مُجْهِهِ أَپَنِي غَيْرَ سَبْبَ بَيْ -

## دعا میں قبول کیوں نہیں ہوتیں؟

لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادھمؑ سے سوال کیا، کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا میں قبول کیوں نہیں فرماتا؟ آپؐ نے فرمایا۔

- 1- تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے۔
- 2- رسول ﷺ کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے۔
- 3- قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔
- 4- اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے۔
- 5- جانتے ہو کہ جنت اطاعت کرنے والوں کے لئے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے۔

- 6- جانتے ہو کہ دوزخ گنہگاروں کیلئے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے۔
- 7- شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو دور نہیں بھاگتے۔
- 8- خویش واقارب کو اپنے ہاتھوں سے فن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے۔
- 9- موت کو بحق جانتے ہو مگر عاقبت کا کوئی سامان نہیں کرتے۔
- 10- دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو مگر اپنی برا یوں کو ترک نہیں کرتے۔
- بھلا یے شخص کی دعائیں کیسے قبول ہوں۔

## دعا

اے اللہ! ہم عاجز بندے تیری پا کی بیان کرتے ہیں اور  
 تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔  
 اے اللہ! ہمارے صغیرہ، کبیرہ تجویٹے بڑے ظاہر باطن،  
 اگلے پچھلے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما  
 دے۔ ہماری خطاوں سے درگزر فرما۔ اے غفور الرحیم!  
 ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ! ہم اپنے گناہوں پر  
 شرمندہ ہیں۔ ہم پے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ ہماری  
 خطاوں کو معاف فرما۔ اے اللہ! جو گناہ جان کرنے ہیں اور  
 جوانجا نے میں ہوئے ہیں سب کو اپنے حبیب پاک ﷺ اور

قرآن پاک کے صدقے میں معاف فرم۔ اے اللہ! ہمیں  
 نجات عطا فرم۔ تیری معافی بہت بڑی چیز ہے۔ اے اللہ!  
 ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے۔  
 اے اللہ! ہم کو پھر تو بے کی توفیق عطا فرم۔ اے معبود برحق  
 تیری عبادت میں جو ہم نے بہت قصور کئے ہیں سب کو معاف  
 فرم۔ اے اللہ! ہم گنهگار ہیں۔ خطا کار ہیں مگر پھر بھی تجھے  
 معافی کے طلبگار ہیں۔

اے اللہ! اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پر  
 جائیں گے۔ اے اللہ! تیرا در اس وقت تک نہ چھوڑیں گے  
 جب تک ہمیں معافی نہ مل جائے۔ اے اللہ! اگر تو نے معاف  
 نہ کیا تو ہم تباہ و بر باد ہو جائیں گے۔ ہم کو صرف اور صرف

نجات چاہئے۔ اے اللہ! اپنے پا کیزہ ابر رحمت سے ہمارے داؤں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ ہم کو پا اور سچا مسلمان بنادے۔ اے اللہ! ہم کو اسلام پر استقامت عطا فرم۔ ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بخش دے۔

جب تک ہم زندہ ہیں اس پاک اور عالی دین پر قائم رہیں۔  
اے اللہ! ہم سے راضی ہو جا۔ ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا اور آئندہ ان کے فریب سے بچا۔

اے اللہ! اپنی خاص رحمتیں نازل فرم۔ اے اللہ! ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا۔

اے اللہ! جن و انس کے فتنوں سے بچا اور ہمیں زندگی

اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ! ہمیں ایمان کی، علم کی  
دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ! گمراہوں کو راہ پر لے  
آ، اے اللہ! ہمارے متعلقین کو نیک بنادے اور دین اسلام پر  
چلنے کی ہمت اور بھلے کاموں کی توفیق عطا فرم۔

اے اللہ! ہمیں ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ  
اٹھائیو۔ اے اللہ! ہمیں پاکیزگی کی حالت میں موت دینا۔  
اے اللہ! ہمیں شہادت والی موت عطا فرمائیو۔ اے اللہ!  
ہمیں نماز کی حالت میں روزے کی حالت میں، ایمان کی  
حالت میں موت عطا فرمائیو۔ اے اللہ! ہماری موت کو تھفہ بنا  
کر بھیجنا۔ اے اللہ! ہماری موت کو رحمت بنا ناز جمعت نہ بنانا۔  
اے اللہ! ہماری موت کی منزليں آسان فرمائیو۔ ہماری قبور

کی منزلیں آسان فرمائیو۔ ہماری قبر کو جنت کے باعچوں میں  
سے ایک باغ بنانا۔ اے اللہ! ہماری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں  
تے رُزہانہ بنانا۔ اے اللہ! قبر کے کیڑے مکوڑوں سے  
بچانا۔ قبر کی تگلی سے بچانا۔ اے اللہ! مندر نکیر کے سوالوں کے  
وقت ثابت قدیم عطا فرمانا۔ اے اللہ! یہماروں کو شفادینا۔  
کمزوروں کو قوت دیدے۔ اے اللہ! ہمیں جسمانی اور  
روحانی صحت عطا فرم۔

اے اللہ! ہر قسم کی یہماریوں سے بچا۔ اے اللہ! جو یہماری ہیں  
ان کو شفاء۔ اے اللہ! اخلاص نصیب فرم۔ ہمارے دلوں  
تے حسد اور بغض و کینہ دور فرم۔ اے اللہ! ہم کو دجال کے فتنے  
مہوت کی ختن، قبر کے عذاب، قیامت کی آرمی اور جہنم کی آگ

سے محفوظ فرما۔ اے اللہ! بیوپار، تجارت اور رزق حلال میں  
 برکت عطا کر، خسارے اور نقصان سے بچا۔ اے اللہ! حلال  
 پاکیزہ اور کشادہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ! تھوڑے رزق پر  
 قناعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ! بے روزگاروں کو روزگار  
 عطا فرما۔ اے اللہ! ہمارے نگہبان، ہمارے جان و مال، عزت  
 و آبرو، مکان، دکان سب چھوٹے بڑوں کی پوری حفاظت فرما۔  
 اے اللہ! اے حکم الٰہ کمین! ظالموں کے ظلم سے بچا،  
 مظلوموں کی مدد فرما۔ اے قدرت والے! جو ہمارا دشمن ہے  
 اس کے شر سے بچا، دشمنوں کو ان کی ناپاک نیتوں میں ناکام کر  
 دے۔ غیب سے ہماری نصرت کا سامان فرما۔  
 اے اللہ! ہمیں ہر قسم کی بادوں سے، ناگہانی آفتوں اور

مصیبتوں سے بچا۔ اچانک موت سے بچا، ہمارے ساتھ رحم  
 و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ! ہماری تمام مشکلات کو حل فرما،  
 ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ! ہمارے  
 سب گھروں میں پچی محبت اور پیار عطا فرما۔ ماں، باپ اور  
 اولاد میں بہن، بھائیوں میں، خاوندوں، بیویوں میں پچی  
 محبت دے۔ اے اللہ! پچھرلوں کو ملادے، روٹھے ہوؤں کو منا  
 دے۔ اے اللہ! ہماری دلی تمنا میں پوری فرما۔  
 اے اللہ! ہمارے لڑکے لڑکیوں کو پاکدا منی نصیب  
 فرما، نیک ازدواج نصیب فرما۔ اے قسمت بنانے والے!  
 نصیب اچھا کر دے۔ اے اللہ! بے اولادوں کو نیک اور  
 صالح اولاد عطا فرما۔

اے قدرت والے! ہماری ساری الجھنوں کو دور کر دئے،  
 ہماری تمام نیک مرادیں پوری کر دے۔ اے اللہ! تنگ  
 دستوں کی تنگدستی دور فرم۔ اے اللہ! مسلمانوں کو دلیں اور  
 پر دلیں میں چین، امن اور سلامتی عطا کر۔ اے اللہ جو سفر میں  
 ہیں انہیں خیریت سے رکھیو۔

اے اللہ! حضرت آدم علیہ السلام جیسی توبہ نصیب فرم۔  
 اے اللہ! ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی گریہ و  
 زاری عطا فرم۔ حسن یوسف علیہ السلام عطا فرم۔ اے اللہ!  
 حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دوستی نصیب فرم۔ اے اللہ!  
 ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا کر۔ اے اللہ!  
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا سچا بنادے۔ اے اللہ!

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی خدمت اسلام، رعب و  
دبدبہ اور شان و شوکت عطا فرما۔

اے اللہ! حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی شرم و حیا اور  
خزانہ عطا کر۔ اے اللہ! حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شجاعت  
و بہادری اور سخاوت عطا فرما۔

اے اللہ! ہمیں حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کی پاکیزہ مبارک اور بارکت  
سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔

اے اللہ! ترازو کا پلڑا نیکیوں سے وزنی بنانا۔ اے  
اللہ! ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن رکھنا۔ اے اللہ!  
قبر کے اندر ہیرے اور عذاب سے بچانا۔ اے اللہ! ہمارے  
نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عنایت فرمانا۔ اے اللہ! موت کی

سختی سے بچانا، قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ  
 فرما۔ اے اللہ! پل صراط کا راستہ آسان فرما اور جنت  
 الفردوس میں جگہ دے۔ اے اللہ! ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا  
 اور حضور ﷺ کی شفاعت نصیب کرنا۔ اے اللہ! میدانِ حشر  
 میں ذلت و رسالت سے ہماری حفاظت کرنا، وہاں کی بھوک  
 اور پیاس کی شدت سے ہماری حفاظت کرنا، ہمارا حشر اپنے  
 جھنڈے کے نیچے فرمانا، حضور اکرم ﷺ کے دست مبارک  
 سے جامِ کوثر عنایت فرمانا۔ اے اللہ! پل صراط سے بھلی کی  
 طرح گزار دینا، موت کے بعد بھی تمام گھائیوں کو آسان  
 فرمانا۔ یا اللہ! اس پیارے دین کو سرسبز فرما۔ اپنے  
 حبیب ﷺ کے صدقے میں ہماری دعا میں قبول فرما۔

اے اللہ! جس نے یہ دعا شائع کرائی ہے ان کے اور ان کے والدین کے گناہ معاف فرم۔ دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے نواز اور جنت الفردوس میں بلند درجے عطا فرم۔ آمین۔

اے اللہ! تو ہمیں آزمائش میں مت ڈال، ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرم۔ اے مالک الملک! مسلمانوں پر جتنی مشکلات آپڑی ہیں سب دور فرم۔ امن و چیز اور اطمینان نصیب فرم۔ اے اللہ! شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرم۔ اے اللہ! پریشان حالوں کی پریشانی دور فرم اور جن کی جائز ضرورتیں ہیں ان کو پورا کر۔ اے اللہ! تمام مسلمانوں کو اور ہم کو بھی پانچ وقت کا نمازی بنادے۔ ہماری

نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ سیدھے راستے پر  
 ہمارے قدموں کو جمادے۔ مقبول اور کار آمد اور نفع بخش عمل  
 نصیب فرما۔ کامل درجہ کا ایمان اور پاک یقین نصیب فرما۔ ضائع  
 اور بر باد ہونے والے اعمال سے ہم کو محفوظ فرما۔ تھوڑے  
 سے عمل پر زیادہ سے زیادہ اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے اعمال  
 میں صحابیٰ اور صحابیاتُ اور ازواج مطہراتُ کے اعمال کی  
 جھلک پیدا کر دے۔ ان کے جیسا جذبہ دین عطا فرما۔ اے  
 اللہ! ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اپنی عطا سے عطا فرما۔ جو  
 ہمارے لئے بہتر ہو وہی عطا فرما۔ اپنے نیک بندوں اور  
 پیغمبروں کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہی ہمیں بھی عطا فرمائی اور جس  
 سے انہوں نے پناہ مانگی اس سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں

دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔

اے اللہ! شفیع المذین حضرت محمد ﷺ کی شفاعت نصیب فرمانا۔ آخرت کی رسائی سے بچانا، خاتمہ بالخیر کرنا۔

اے اللہ! اپنی محبت کا پاکیزہ شیریں شربت پلا۔ اے اللہ! دنیا اور آخرت کی خواہشوں پر اپنی محبت غالب فرمانا۔

اے اللہ! ہمارے عقائد کو درست فرما۔ ہماری نیتوں کو خالص فرمانا۔ ہمارے دلوں کے اندر ھے پن کو درست فرما، سینوں کو منور فرما۔ اے اللہ! بدکردار کے کردار کو درست فرما۔

بداخلاق کو مکارم الاخلاق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے آباء اجداد جو اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ان کی مغفرت فرما۔ ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھ۔ ان کی قبروں پر حمتیں نازل

فرما۔ ان کو بلند درجات عطا فرما۔ ان کو جنت الفردوس میں

جگہ عطا فرما۔

اے اللہ! ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا  
فرما۔ اے اللہ! ہماری قسمت میں حج و عمرہ عطا فرما۔ ہماری  
لبیک کو قبول فرما۔ اے مالک و مہربان! ہماری ٹوٹی پھوٹی  
عبدتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ! رمضان  
المبارک کے روزوں میں تراویح میں، تلاوت میں اور ہر قسم  
کی نیکیوں میں جو قصور ہم سے ہوئے ہیں، سب کو معاف فرما  
اور تمام نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر قبول فرما۔ اے اللہ! دنیا و دین  
کی تباہی سے بچا اور دنیا و دین کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ!  
جو ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھینے

سے بچا۔ اے اللہ! جو دنیا میں تیرے آگے سر جھکتا ہے اے  
 دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا اور جب تک تو زندہ رکھے  
 چلتے ہاتھ پیروں کے ساتھ ایمان پر رکھ۔ اے اللہ! سعادت  
 کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرم۔ اے اللہ! ہمیں  
 نیکیوں کی خاطر لمبی عمر عطا فرم۔ اے اللہ! جادو اور سفلی تر کیب  
 کے شر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، جن، بھوت اور  
 نظر بد سے بچا۔ اے اللہ! شر پسندوں کے شر سے بچا۔ اے  
 اللہ! مسجدوں کو آباد فرم۔ اے اللہ! دین کے خدمت گاروں  
 میں ہمیں قبول فرم۔

اے اللہ! جو بات ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے، ہماری ساری  
 پریشانیاں تیری نگاہ میں ہیں۔ ہمارے جائز مقاصد کو قبول

فرما اور ہماری پریشانیوں کو دور فرم۔ اے اللہ! جو والدین  
 اپنے بچوں میں ناتفاقی سے پریشان ہیں ان میں اتفاق  
 اور محبت عطا فرم۔ اے اللہ! جو اپنے بچوں کے رشتؤں کے  
 لئے پریشان ہیں ان کو نیک اور اچھے رشتے جلدی عطا فرم۔  
 اے اللہ ان کی خصوصی مدد فرم۔

اے اللہ! حج بیت اللہ اور عمرہ کے لئے ہماری لبیک قبول  
 فرم۔ حاضری کی توفیق، وسائل اور صحت عطا فرم۔ یا اللہ! جو  
 کچھ نبی کریم ﷺ نے تجوہ سے مانگا وہ تمام نعمتیں ہمیں بھی عطا  
 فرم۔ آمین۔

اے اللہ! سب والدین کو بچوں کی طرف سے دل کی  
 ٹھنڈک اور آنکھوں کا چین عطا فرم۔ ان کی طرف سے غم اور

آزمائش سے بچا۔ اے اللہ! آخرت کا سفر آسان فرم اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرم۔ اے اللہ! حضور نبی کریم ﷺ نے جوز مینی، آسمانی پریشانیوں اور آفتؤں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرم۔ اے اللہ! ہمارے مقدر کے دکھوں، غموں اور مصیبتوں کو مٹا کر خوشیاں، راحتیں اور چیزوں لکھ دے۔ اے اللہ اولاد کی طرف سے آزمائش سے بچا، اے اللہ! ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرم اور ہماری جائز، نیک دعا میں قبول فرم۔ آمین ثم آمین۔

وَقَالَ رَبُّكُمُ الَّذِيْعُونِيْ أَسْتَجِبْلُكُمْ (المؤمن۔ آیت 60)

ترجمہ: اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ

سے دعا کرو میں تمہاری (دعا) قبول کروں گا۔

## دعا

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا  
 صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ  
 مَّجِيدٌ

ایک مختصر لیکن بہت جامع درود جسے اپنے خصوصی و عمومی احباب کی  
خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں یہ ہے

# صلی اللہ علی محمد

دروڑہدا کے متعلق: امام عبدالوباب الشعراؑ نے بیان کیا ہے کہ حضور  
نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے یہ درود پڑھا تو اس نے اللہ تعالیٰ  
کی رحمت کے ستر دروازے اپنی ذات پر کھول لیے اور اللہ تعالیٰ اس  
کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پس اس شخص سے وہی  
آدمی بغض رکھے گا، جس کے دل میں نفاق ہو گا۔ امام شعراؑ فرماتے  
ہیں کہ ہمارے شیخ سیدی علی خواصؒ نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ لئے  
حضور نبی کریم ﷺ کا وہ ارشاد گرامی بھی ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہو گا“  
جس نے جب بھی میرا ذکر کیا تو مجھ پر درود پڑھا  
بحوالہ شیخ محمد یوسف بن اسہا عیل نہبہانی ”افضل الصلة علی سید  
السادات“ (عربی) مطبوعہ بیروت ۱۳۰۹ھ صفحہ نمبر ۲۳۔

# دفتر ماہنامه ”عقبقري“

78/3 مرکز روحانیت و امن، عبقري اسٹریٹ نزد قرطبه مسجد مزنگ چونگی لاہور

فون: 042-37552384, 042-37597605

Email: [contact@ubqari.org](mailto:contact@ubqari.org), Website: [www.ubqari.org](http://www.ubqari.org)

I S B N



9789696260233



140